



جون 2020

عزیزی اہل خانہ،

تعلیم کو جاری رکھنے اور اپنے تصور کو وسعت دینے کے لیے موسم گرما مطالعہ نہایت اہم ہے! ہمیں اس موسم گرما میں محکمہ تعلیم کے تمام اہل خانہ کے ہر عمر کے فرد کے لیے مزید مفت ای بکس اور آڈیو بکس دستیاب بنانے کی بے حد خوشی ہے، اور ان تک رسائی حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ برائے مہربانی مزید معلومات کے لیے آگے پڑھیں اور schools.nyc.gov/summerreading پر مزید اضافی تفصیلات کے لیے جائیں جو پیر، 29 جون تک شائع ہوں گی۔

Sora کے ساتھ مطالعہ!

ای ریڈر Sora، میں گریڈز 3K-12 کے لیے کئی زبانوں میں سینکڑوں متنوع انداز کے ذرائع کے مجموعے ہیں تاکہ طلبا جن کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں اپنے آپ کو اور ہمسر طلبا کو دیکھ سکیں۔ آپ اپنی آلے (ڈیوائس) پر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ایک ویب براؤزر کے ذریعے سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی DOE کی آئی ڈی کے ساتھ لاگ ان ہوں؛ مزید کسی سائن اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع کرنے کے لیے برائے مہربانی discover.sora.com/nyc پر جائیں۔

آپ کے طالب علم کے DOE لاگ ان کو تلاش کرنے میں معاونت درکار ہے؟ یہاں کلک کریں اگر آپ نے DOE سے ایک آئی پیڈ وصول کیا ہے، اس میں خود بخود Sora ایپ 1 جولائی کو شامل ہو جائے گی۔

مزید ای بکس عنوانات اور نیویارک شہر اسکول لائبریری نظام کے ڈیٹابیس تک رسائی کے لیے آپ galepages.com/nycdoe11 پر بھی جا سکتے ہیں۔ نیویارک ریاست سے باہر کسی مقام سے ای بکس اور ڈیٹابیس تک رسائی کے لیے برائے مہربانی ذیل libraries@schools.nyc.gov پر صارف نام اور پاس ورڈ کے لیے ای میل بھیجیں۔

برائے مہربانی متوجہ ہوں گو کہ ان میں سے چند ذرائع صرف انگریزی میں دستیاب ہیں، ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے کہ گھریلو زبانوں میں زیادہ ذرائع دستیاب ہو سکیں۔

پبلک لائبریری کے ذرائع سے بھی فائدہ اٹھائیں!

نیویارک شہر پبلک لائبریری نظام بھی ڈیجیٹل ذرائع فراہم کر رہا ہے اور انٹرنیٹ کے قابل آلات (ڈیوائس)، بشمول DOE کے فراہم کردہ تمام آئی پیڈز پر نجی تدریس کے پلیٹ فارم برین فیوز (Brainfuse) تک مفت رسائی فراہم کر رہا ہے۔



- بروکلن پبلک لائبریری۔ بروکلن پبلک لائبریری ای کارڈ حاصل کرنے لیے Bklynlibrary.org پر فارم مکمل کریں۔
- نیویارک پبلک لائبریری برونکس، مین ہیٹن اور اسٹیٹن آئلینڈ میں خدمت انجام دے رہی ہے۔ مفت SimplyE ایپ کے ذریعے نیویارک پبلک لائبریری ڈیجیٹل کارڈ حاصل کرنے کے لیے، برائے مہربانی NYPL.org پر جائیں۔
- کونز پبلک لائبریری کونز پبلک لائبریری ای کارڈ حاصل کرنے کے لیے، QueensLibrary.org پر فارم مکمل کریں۔

مطالعہ سے بھر پور موسمِ گرما کے لیے نیک تمنائیں!

نیک تمنائیں

Linda Chen
اعلیٰ تعلیمی افسر